


ہندوستان میں چھ لاکھ سے زیادہ گائوں ہیں۔ ان کی پانی، بھلی اور سڑکوں کی ضرورتوں کی دیکھ بھال کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زمینوں کے ریکارڈ رکھنے ہوتے ہیں اور تنازعات سے نبٹنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ان سب کاموں کو سنبھالنے کے لئے ایک بڑی مشینری موجود ہے۔ اس باب میں ہم دو دیہی انتظامی افسروں کے کام پر کچھ تفصیلی نظر ڈالیں گے۔

دیہی علاقوں کا انتظام اور بندوبست (Rural Administration)

جسے ایک چھوٹی سی مینڈ جسے بند کہتے ہیں، موہن کی زمین سے الگ کرتی ہے۔

ایک روز صبح کے وقت موہن نے دیکھا کہ رگھو نے بند کو چند فٹ ادھر بڑھا لیا ہے۔ اس طرح اس نے موہن کی کچھ زمین لے کر اپنی کھیت کو بڑھالیا تھا۔ موہن کو کچھ غصہ تو آیا لیکن وہ کچھ ڈرا ہوا بھی تھا۔ رگھو کے خاندان کے پاس بہت سے کھیت تھے اور اس کے علاوہ رگھو کا چاچا گائوں کا سرپنج بھی تھا۔ پھر بھی موہن نے کچھ ہمت کی اور رگھو کے گھر



گائوں میں تکرار کا ایک منظر

موہن ایک کسان ہے۔ اس کے خاندان کے گیا۔

دونوں کے بیچ گرم حجت اور توتو میں میں شروع ہوئی۔ رگھو نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے منڈیر ہٹائی ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو بلا لیا

پاس ایک چھوٹا سا کھیت ہے، جس پر وہ بہت برسوں سے کھیتی کرتے آئے ہیں۔ اس کے کھیت کے برابر ہی میں رگھو، کی زمین ہے

ہر پولیس اسٹیشن کا اپنا علاقہ ہوتا ہے جو اس کے تحت آتا ہے۔ اس علاقے کے تمام لوگ چوری، ڈکیتی، حادثات، چوٹ اور لڑائی جھگڑے وغیرہ کے معاملوں کی پولیس میں رپٹ یا اطلاع متعلقہ تھانے میں کرسکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اس تھانے کی ہوتی ہے کہ وہ معلومات کریے، تحقیقات کریے اور اپنے علاقے میں ہونے والی وار داتوں کے سلسلے میں کارروائی کرے۔

- 1۔ اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو اپنی شکایت درج کرنے آپ کس پولیس اسٹیشن جائیں گے۔
- 2۔ موہن اور رگھو کے بیچ کیا جھگڑا تھا۔
- 3۔ رگھو کے ساتھ جھگڑا مول یعنے کے بارے موہن کیوں پریشان تھا؟
- 4۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ موہن کو پولیس میں شکایت درج کرانی چاہیے اور دوسروں کا کہنا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا لیلیں دیں؟

پولیس اسٹیشن کے کام کرنے کے ڈھنگ (پولیس اسٹیشن میں کام)

تھانے پہنچنے پر موہن تھانہ انچارج (اسٹیشن ہائوس آفیسر یا ایس۔ ایچ۔ او) کے پاس گیا اور اس کو پورا واقعہ بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ تحریری طور پر شکایت دینا چاہتا ہے۔ ایس۔ ایچ۔ او نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اسے ایک طرف کر دیا اور بولا کہ

اور ان لوگوں نے موہن پر چینخنا چلانا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ پڑوسیوں کو ہنگامے کی آواز آئی تو وہ اس جگہ کی طرف دوڑ پڑے جہاں موہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ وہ اسے وہاں سے لے گئے۔

اس کے سر اور ہاتھ پر بہت چوٹ لگی تھی۔ ایک پڑوسی نے اس کی وقتی مرہم پٹی کی۔ اس کے دوست نے، جو گائوں کا ڈاک گھر بھی چلاتا تھا، مشورہ دیا کہ مقامی پولیس تھانے جا کر رپٹ کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو شک تھا کہ یہ خیال درست ہے یا نہیں کیونکہ انہیں لگا کہ اس میں بہت پیسہ ضائع ہو گا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رگھو کے گھروالوں نے پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کر لیا ہو گا۔ کافی بحث اور گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ موہن اپنے کچھ پڑوسیوں کے ساتھ، جنہوں نے واقعہ دیکھا تھا، پولیس تھانے جائے گا۔

پولیس اسٹیشن کا علاقہ

تھانے جاتے ہوئے ایک پڑوسی نے پوچھا۔ ”هم کچھ زیادہ پیسہ خرچ کر کے شہر کے بڑے تھانے کیوں نہ چلیں؟“ یہ پیسے کا سوال نہیں ہے۔ ہم معاملے صرف اسی تھانے میں درج کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا گائوں اسی تھانے کے علاقے میں پڑتا ہے۔“ موہن نے صفائی کے ساتھ کہا۔




ساتھ بحث کی کہ موہن کو ان کے سامنے پیٹا گیا تھا اور اگر اسے نہ بجاتے تو وہ بہت بڑی طرح زخمی ہو جاتا۔ انہوں نے معاملہ درج کرنے پر اصرار کیا۔ بالآخر آفیسر تیار ہو گیا۔ اس نے موہن سے شکایت لکھنے کے لیے کہا اور لوگوں سے بھی کہا کہ وہ اگلے ہی روز ایک سپاہی کو واقعہ کی تحقیق کے لیے بھیجے گا۔

آراضی کے ریکارڈوں کی دیکھ ریکھ

آپ نے دیکھا کہ موہن اور رگھو کے درمیان گرم بحث ہو رہی تھی کہ کیا ان کے کھیتوں کی مشترکہ حد بندی کو تبدیل کیا گیا ہے۔ کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اس جھگڑے کو پر امن طور پر نمٹا لیتے؟ کیا ایسے کاغذات ہوتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ گاؤں میں کس کی زمین کون سی ہے؟ آئیے پتہ چلائیں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔

زمین کی نیپائی کرنا اور اس کے ریکارڈ رکھنا پٹواری کا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ مختلف ریاستوں میں پٹواری کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کچھ گاؤں میں ایسے افسروں کو لیکھ پال کہا جاتا ہے۔ کہیں اسے قانون گو کہتے ہیں اور کچھ جگہوں میں اسے کرم چاری یا گاؤں کا افسر کہتے ہیں۔ ہم اس افسر کو یہاں پٹواری کہیں گے۔ ہر پٹواری گاؤں کے ایک گروپ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ دیہاتوں کے ریکارڈوں کی دیکھ ریکھ حفاظت اور انھیں تازہ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی ضروری تبدیلیاں اور اضافے متواتر کرتا ہے۔

اس کے پاس چھوٹی چھوٹی شکایتیں لکھنے اور پھر ان کی تفتیش کرنے کی پریشانی اٹھانے اور وقت ضائع کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ موہن نے اس کو اپنی چوٹیں اور زخم دکھائے لیکن تھانہ انچارج نے اس کا یقین نہیں کیا۔



ایک تمثیل کے ذریعہ تھا نے میں درج بالا صورت حال دکھائیے۔ اس کے بعد بات تیکھی کہ موہن یا تھانہ انچارج (S.H.O) یا پڑوسیوں کا کردار نبھاتے وقت آپ نے کیسا محسوس کیا۔ کیا ایس۔ ایچ۔ او۔ کو حالات کے بارے میں الگ طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا؟

موہن کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ اسے پکا پتہ نہ تھا کہ اس کی شکایت کیوں درج نہیں کی جا رہی ہے۔ وہ باہر گیا اور اپنے پڑوسیوں کو بلایا۔ وہ دفتر میں داخل ہوئے اور مضبوطی کے

اپنی ریاست میں پٹواری کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح معلوم کیجیے۔ اگر آپ دیہی علاقے میں رہتے ہیں تو معلوم کیجیے کہ: آپ کے علاقے کا پٹواری کتنے گاؤں کے ریکارڈ رکھتا ہے؟ گاؤں کے لوگ اس سے کس طرح رابطہ کرتے ہیں؟

زمین کی مالگزاری کی تنظیم اور کسانوں سے اس کا پیسہ اکٹھا کرنا بھی پٹواری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اسے اپنے علاقے کی فصلوں کے بارے میں حکومت کو مطلع بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان ریکارڈوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو پٹواری کے پاس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پٹواری کے لیے ان ریکارڈوں میں تبدیلی تازہ ترین معلومات باقاعدگی کے ساتھ بھرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کسان اپنے کھیتوں میں اگنے والی فصلوں میں کر دیں یا کوئی شخص کہیں پرکنوں کھو دے۔ ایسی تمام باتوں کے بارے میں کامل معلومات رکھنا حکومت کے محکمہ مالگزاری کا کام ہے۔ اس محکمے کے اعلیٰ افسر پٹواری کے کام پر نظر رکھتے ہیں اور برابر نگرانی کرتے رہتے ہیں۔

ہندوستان کی تمام ریاستیں ضلعوں میں منقسم ہیں۔ زمین سے متعلق معاملات کے انتظام و انضرام کے لیے ان اضلاع اور چھوٹے حصوں کو بانٹا جاتا ہے۔ کسی ضلع کے یہ چھوٹے یا ذیلی ڈویژن مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں جیسے تحریصیل، تعلقہ وغیرہ۔ ضلع لکھڑ سر براد ہوتا ہے اور اس کے ماتحت مالگزاری افسران ہوتے ہیں جنہیں تحریصیل دار کہا جاتا ہے۔ تباہیات کی ساعت انہی کو کرنی ہوتی ہے۔ یہ



اگلے صفحہ پر دیا گیا نقشہ اور رجسٹر سے لی گئی متعلقہ تفصیلات ان ریکارڈوں کا ایک چھوٹا حصہ ہیں جو پٹواری کی تحویل میں ہوتے ہیں۔



عام طور پر کاشت کی زمین یا زرعی آراضی کی پیاس کے پٹواری کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ بچھوں پر ایک لمبی زنجیر استعمال کی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا معاملے میں پٹواری موہن اور رکھوڈنوں کے کھیتوں کو ناپ کرنے کا نقشہ میں دی ہوئی پیاسوں سے موازنہ کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایک دوسرے سے میل نہ کھاتیں تو یہ بات صاف ہو جاتی کہ کھیتوں کی حدود کو تبدیل کیا گیا ہے۔

پُواری کا خسرہ ریکارڈ نیچے دیے ہوئے نقشے کے بارے میں معلومات بھم پہنچاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا کون سا نکٹا کس کا ہے۔ دونوں ریکارڈوں اور نقشے پر نظر ڈالیے، اور موہن اور رگھوکی زمینوں کے بارے میں درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے:

خسرہ 5									
سہولیات	غیر کاشت شده زمین کا رقبہ	کاشت شدہ رقمہ اس سال اگاہی گئی فصل	کاشت شدہ رقمہ اس سال دوسری رقبہ فصل			اگر زمین کسی کو کرانے پر دی گئی ہے اس کا نام اور کرایہ کی رقم	مالک کام والدیا شہر کا نام پتہ	رقبہ ہمیکلیر میں	نمبر شمار
			8	7	6	5	4		
کنوں 1، کام کی حالت میں	0.25	1.75	2.75 ہمیکلر	0.75 ہمیکلر	سو یا بین	نہیں	موہن ولدر جرام گاؤں امرالپورہ آزر	0.75	1
کنوں 1 کام کی حالت چراگاہ کے طور پر گھاس کا میدان	-	-	گیہوں آپا شی شده زمین	سو یا بین	نہیں	No	رگھورام ولدر تن لعل، گاؤں امرالپورہ آزر	3.00	2
							حکومت مدھیہ پر دلیش چراگاہ	6.00	3

موضع امرالپورہ پُواری ریکارڈ - 16

- 1۔ موہن کے کھیت کے جنوب میں کس کی زمین ہے؟
- 2۔ موہن اور رگھوکی زمینوں کے درمیان کی سرحد پر نشان لگائیے۔
- 3۔ کھیت نمبر 3 کو کون استعمال کر سکتا ہے؟
- 4۔ کھیت نمبر 2 اور 3 کے ضمن میں کیا معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔



کے ذریعے رکھا جانے لگا ہے اور انھیں پنچاہیت کے دفتر میں بھی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ مستیاب ہو سکیں اور لگاتار ان میں ضروری تبدیلیاں کی جاتی رہیں کہ وہ پرانے نہ ہو جائیں۔

آپ کے خیال میں کسانوں کو اس ریکارڈ کی نقل کب درکار ہو سکتی ہے؟ مندرجہ ذیل صورتوں کا مطالعہ کیجیے اور ایسے معاملوں کی نشاندہی کیجیے۔ جن میں ان ریکارڈوں کی ضرورت

پڑے گی۔ یہ بھی بتائیے کہ ضرورت کیوں پڑے گی؟

* ایک کسان کسی دوسرے کسان سے زمین کا لکڑا خریدنا چاہتا ہے۔

* ایک کسان اپنی پیداوار دوسرے کسان کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔

* ایک کسان عورت اپنی زمین میں کنوں کھداونے کے لیے بینک سے قرض لینا چاہتی ہے۔

* ایک کسان اپنے کھیت کے لیے کیمیائی کھاد خریدنا چاہتا ہے۔

* ایک کسان اپنی جائداد کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔

پٹواری کے کام کی غیرانی بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ صحیح ڈھنگ سے رکھے جا رہے ہیں اور مال گزاری وصول ہو رہی ہے۔ وہ اس بات کو بھی یقینی بنانے ہیں کہ کسان اپنے ریکارڈ کی نقل آسانی حاصل کر سکیں اور طلباء کو اپنی ذات کے حقوقی وغیرہ مل سکیں۔ تحریک دار کے دفتر میں زمین سے متعلق تنازعات کی ساعت بھی کی جاتی ہے۔

کسانوں کو اکثر اس نقشے کے ساتھ اپنی زمین کے ریکارڈوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ سابقہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنا ان کا حق ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک معمولی سی فیس دینی پڑتی ہے۔

تاہم یہ معلومات آسانی سے مستیاب نہیں کرائی جاتی ہے اور اسے پانے کے لیے کسانوں کو کبھی کبھی بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ریاستوں میں اب ریکارڈوں کو کمپیوٹر

ایک بیٹی کی خواہش

وراثت میں ملا یہ گھر پاپا کو اپنے پتا سے
یہی گھر ملے گا

میرے بھیا کو میرے پتا سے پر میں اور میری ماں
ہمارا کیا؟

بتا دیا گیا ہے مجھے پتا کے گھر میں حصے
کی بات

عورتیں نہیں کیا کریں

لیکن مجھے چاہیے ایک گھر اپنا نہیں چاہیے
جہیز میں ریشم اور سونا

ماخذ:

میری فیملی انجاف مونتاریو (Tiss) پر تاثرات



اس قانون سے عورتوں کی بہت بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے گا۔ مثال کے طور پر سدھا ایک کسان خاندان کی سب سے بڑی بیٹی یہ۔ وہ شادی شدہ ہے اور قریب کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد سدھا اکثر کھیتی کے کام میں اپنی ماں کی مدد کے لیے آتی ہے۔ اس کی ماں نے پٹواری سے زمین منتقل کرنے اور اپنے ریکارڈ میں دوسرے تمام بچوں کے ساتھ سدھا کا نام شامل کرنے کے لیے کہا ہے۔

سدھا کی ماں بڑے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ چھوٹے بھائی اور بہن کی مدد سے کھیتی باری کو منظم کرتی ہے۔ اس طرح سدھا بھی اس یقین دہانی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ اگر اسے کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ ہمیشہ زمین کے اپنے حصے پر بھروسہ کر سکتی ہے۔

ایک نیا قانون

(ہندووراثت ترمیم ایکٹ، 2005)

اکثر جب ہم ایسے کسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کی اپنی زمین ہے، تو ہمارے ذہن میں مردوں کا ہی خیال آتا ہے۔ عورتوں کو کھیتوں میں کام کرنے والی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ زراعتی زمین کے مالکوں کی حیثیت سے نہیں۔ ابھی حال تک کچھ ریاستوں میں عورتوں کو خاندان کی زرعی زمین میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

حال میں قانون بدل دیا گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق بیٹوں، بیٹیوں اور ان کی ماوں کو زمین میں برابر کے حصے مل سکتے ہیں۔ یہ قانون تمام ریاستوں اور مرکز کے تحت آنے والے علاقوں پر لاگو ہو گا۔

دیگر عوامی خدمات: ایک جائزہ

اس باب میں حکومت کے کچھ انتظامی کاموں خاص طور پر دیکھا گیا ہے۔ پہلے مثال کا تعلق نظم و نق قائم رکھنے کے ضمن میں تھا، اور دوسری زمینوں کے ریکارڈوں کی دیکھ ریکھ سے متعلق۔ اول الذکر معاملے میں ہم نے پولیس کے کردار کا جائزہ لیا اور دوسرے پٹواری کے روں کو دیکھا۔ اس کام کی نگرانی ملکے کے دوسرے لوگ جیسے تحریص دار یا سپرخیز ڈنٹ آف پولیس، ہی کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ان خدمات کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور یہ کہ چند مسائل جو انہیں پیش آتے ہیں۔ ان خدمات ان سے متعلق بنائے گئے قوانین کے مطابق استعمال کرنا اور ان کو عملی طور پر چلاتے رہنا ضروری ہے۔ غالباً آپ نے ایسی دیگر خدمات اور سہولتوں کو دیکھا ہے جو حکومت کے مختلف ملکے مہیا کرتے ہیں۔

مندرجہ ذیل مشق اپنے یا کسی مزدیک کے گاؤں میں جا کر یا خود اپنے ہی علاقے کا مشاہدہ کر کے انجام دیجیے:

گاؤں یا علاقے کی عوامی خدمات، جیسے دودھ سوسائٹی ستے داموں کی دکان، بینک، پولیس اسٹیشن، زراعتی سوسائٹی برائے بیچ اور کھاد، ڈاک خانہ یا ذیلی ڈاک گھر، آنگن واڑی، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے مرکز، سرکاری اسکول، ہیلٹھ سینٹر یعنی حفاظان صحت کا مرکز وغیرہ کی فہرست تیار کیجیے۔

تین عوامی خدمات کے بارے میں معلومات جمع کیجیے اور اپنے استاد سے اس بارے میں گفتگو کیجیے کہ ان خدمات کو کس طرح بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہاں ایک مثال تیار کی گئی ہے۔



مکانی	خدمت	رائش کی	کارز	مسائیں
ان کے کام کے بادے میں آپ نے کیا دیکھا	ان کے کام کے بادے میں آپ نے کیا دیکھا	دکان کھاتھی۔ تین لوگ آئے ان سب کے پاس پیلے گنگے کے کارڈ تھے۔ انہوں نے چینی اور چاول ٹیکی۔ منی کی تین ٹھیکیں بیٹھیں تھا۔		
کتنے علاقوں کا احاطہ کرنی ہے؟		یہ دکان دو گاؤں کا احاطہ کرنی ہے۔		
اس سہولت کا مستغل کرنے کے لیے محکمہ کیا پکھرنے کی ضرورت ہے۔	انہیں رائش کا رڑکی ضرورت پڑی۔ یہ چھیل کے فروٹ میں بیالا جانا چاہیے۔			
خدمت کے نقطہ نظر کو دریشیں ملائیں	میں کے تینیں کی فراہمی کافی مقدار میں تینیں ہوتی۔			
لوگوں کو پیش آنے والی مشکلات	چاول بہتر خرماں قدم بیالا جائے۔ میں کا تینیں دستیاب کرنا چاہیے۔ دکان روزانہ کھل کھنا چاہیے۔			
کیا بہتری کی جا سکتی ہے	چاول کی کوٹی کو بہتر بیالا جائے۔ میں کا تینیں دستیاب کرنا چاہیے۔ دکان روزانہ کھل کھنا چاہیے۔			

سوالات

- 1- پولیس کا کیا کام ہوتا ہے؟
- 2- ایک دو چیزوں کے نام بتائیے جو ایک پٹواری کے کاموں میں شامل ہیں۔
- 3- تحصیلدار کا کام ہوتا ہے؟
- 4- گیت میں کس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
- 5- کن معاملوں میں پنچایت کا کام جس کے بارے میں آپ نے پچھلے باب میں پڑھا ہے، اور پٹواری کا کام ایک دوسرے سے باہمی تعلق رکھتے ہیں۔
- 6- کسی پولیس اسٹیشن جا کر ان کاموں کے بارے میں معلوم کیجیے جو پولیس کو نظم و نسق کو برقرار رکھنے اور اپنے علاقے میں، بالخصوص تیوہاروں اور عوامی جلسوں کے دوران، کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟
- 7- ضلع کے تمام پولیس تھانوں کا انچارج کون ہوتا ہے؟ معلوم کیجیے۔
- 8- نئے قانون کے تحت عورتوں کو کس طرح فائدہ ہوا ہے؟
- 9- آپ کے آس پاس کیا ایسی عورتیں ہیں جن کی اپنی جائیداد ہے؟ یہ انہوں نے کس طرح حاصل کی؟

